

بیماری یا چوٹ کی صورت میں علیحدہ رکھنے کا معیار

وہ اسباب جن کی بنا پر کسی بچے کو سکول/سکول جانے کی عمر کے بچوں کی دیکھ بھال کا مرکز (SACC) سے گھر بھیجا جا سکتا ہے یا والد یا والدہ اپنے بچے کو سکول/SACC سے گھر پر رکھیں گے۔ درج ذیل وجوہات کی وجہ سے طلباء کو سکول بس سے گھر واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالب علم/طالبہ کو لازمی والد والدہ/سرپرست یا نامزد بالغ کے سپرد ہی کیا جائے گا۔

- I. 100° فارن بائیٹ یا اس سے زیادہ کا بخار – طالب علم/طالبہ کو گھر بھیج دیں اس وقت تک کہ بخار کم کرنے والی دوا کھانے بغیر بخار اترے کم از کم 24 گھنٹے ہو جائیں۔
- II. آشوب چشم (پنک آئی)، اسٹریپ تھروٹ انفیکشن، داد، اور جلد کی انفیکشن اور سبھی انفیکشن ہیں اور ان کا دواؤں سے علاج
- III. سکول واپس آنے سے قبل کم از کم 24 گھنٹے تک کیا جانا چاہیے۔ برائے مہربانی اپنے بچے کو اس وقت تک دو بار سکول مت بھیجیں تاکہ غیر ضروری طور پر دوسرے بچے اس انفیکشن میں مبتلا نہ ہوں۔
- III. نامعلوم وجہ سے سرخ نشان مع بخار اور/یا رویے کی تبدیلیاں، جب تک کہ ابتدائی نگہداشت فراہم کنندہ نے یہ تعین نہ کیا ہے کہ بیماری ایک متعدی بیماری نہیں ہے۔
- IV. سر میں چوٹ لگنا۔
- V. شدید کھانسی یا سانس لینے میں دقت۔
- VI. سردی زکام - ایسا بچہ/بچی جسے کی ناک سے گاڑھا یا مسلسل مواد بہتا ہو، اسے گھر پر رہنا چاہیے۔
- VII. اسپتال – اچانک پاخانے کی تعداد میں اضافہ ہو کر فی دن تین سے زیادہ ڈھیلا/پانی جیسا پتلا پاخانہ ہونا۔ طالب علم/طالبہ کو اس وقت تک باہر رکھیں جب تک کم از کم 24 گھنٹوں تک اس کی علامات بالکل ختم نہ ہو جائیں۔
- VIII. قے – جب تک کہ قے کی تشخیص کا تعین نہ کیا جائے کہ وہ ناقابل ترسیل/غیر متعدی مرض (جیسے ڈیسمنوریا، ڈسفیجیا، وغیرہ) کی وجہ سے ہے۔
- IX. پیٹ میں درد جو دو گھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہتا ہے یا بخار یا دیگر نشانیوں یا علامات کے ساتھ پیٹ میں وقفے وقفے سے درد ہوتا ہو۔
- X. بخار اور/یا حال ہی میں چوٹ کی وجہ سے گردن میں اکڑاؤ۔
- XI. سکول میں معلوم بیماری کی وبا کی صورت میں ناکافی حفاظتی ٹیکے۔
- XII. دیگر اخراج/معلومات کے لیے ورجینیا محکمہ صحت کے "سکول عملے کیلئے متعدی بیماری کا حوالہ چارٹ" ملاحظہ کیجیے۔